

William Cullen Bryant High School

“The Relentless Quest for Excellence”

Namita Dwarka, Principal

تدریس شدہ 4.13.20

ریموٹ لرننگ گریڈ دینے کی پالیسی

میئر de Blasio کے باضابطہ حکم سے اسکولوں کے بند ہونے کی وجہ سے، تمام طلبا بقایا تعلیمی سال کے لیے روایتی کلاس روم کی تعلیم کے بجائے ریموٹ لرننگ (فاصلے سے تعلیم حاصل کرنے) میں منتقل ہوں گے۔ اس کے نتیجے میں یہ پالیسی "اسکول کے گریڈ دینے کی پالیسی 2019-2020" میں اضافے کے طور پر ہو گی جس کو ہمارے اسکول کی ویب سائٹ (www.wcbryanthhs.org) کے **Academics** لیبل کے نیچے شائع کیا گیا ہے۔


ہمارے اسکول کے تمام اساتذہ طلبا کو تعلیم اور مفوضہ کام دینے کے پلیٹ فارم (آلہ کار) کے طور پر گوگل کلاس روم کو استعمال کریں گے۔ اس لیے طلبا سے توقع کی جاتی ہے کہ یہ انہی دنوں کی طرح اپنے برائینٹ (Bryant) گوگل اکاؤنٹس میں روزانہ سائن ان کریں جس طرح انہوں نے 23 مارچ 2020 سے معمول میں اسکول میں شرکت کرنے کا آغاز کیا تھا۔

گوگل کلاس روم

طلبا ایک انٹرنیٹ براؤزر پر راستہ تلاش کر کے سائن ان کر سکتے ہیں (لیکن گوگل انٹرنیٹ کو ترجیح دی جاتی ہے)

1- www.google.com

2- اس پر کلک کریں **Sign in** (سائن ان) جو کہ اسکرین کے دائیں بالائی حصے میں ہے (اگر قابل اطلاق ہو)

3- وافل پر کلک کریں  جو کہ اسکرین کے دائیں بالائی حصے میں ہے اور "Classrooms" کو منتخب کریں

گوگل کلاس روم میں ہر ایک کلاس کے لیے، اساتذہ اسکول کے اگلے دن، عموماً فی ہفتہ 5 دنوں کے کام کو شائع کریں، ماسوائے ہفتہ / اتوار کے:

- تاریخ
- تعلیمی اہداف
- قابل توجہ سوالات
- تعلیمی سرگرمیاں
- وہ کام جن کو طلبا کو اسباق کے لیے مکمل کرنے کی توقع کی جاتی ہے
- طلبا کے لیے کام (کاموں) کو جمع کروانے کی آخری تاریخ
- طلبا کے ذریعے کام (کاموں) کو جمع کروانے کے طریقے

اساتذہ طلبا کو ان کو روزانہ کے گوگل کلاس روم میں شرکت اور مفوضہ کام کی تشخیص کی بنیاد پر گریڈ دیں گے۔ ہمارے اسکول کی گریڈ دینے کی پالیسی کے مطابق، تمام اساتذہ تمام مفوضہ کام اور شرکت کرنے کے لیے گریڈ کو پیوپل پاتھ (www.PupilPath.com) میں داخل کریں گے۔ حاضری کے بجائے، ریموٹ لرننگ میں ہر روز طلبا کی شرکت کی نگرانی ان کے اساتذہ کے ذریعے مختلف طریقوں سے کی جائے گی۔ ہر ہفتے کے جمعے تک اساتذہ طلبا کے گریڈز کو پیوپل پاتھ میں تازہ ترین بنائیں گے۔

جو طلبا اساتذہ کی ہدایات کے مطابق مفوضہ کام کے جوابات کو جمع کروانے کے ذریعے روزانہ کے اسباق میں شرکت نہیں کریں گے تو یہ کورس میں فیل ہونے کا سبب بن سکتا ہے اور والدین / سرپرست کے ساتھ ایک مداخلت کی کانفرنس کے لیے رابطہ کیا جائے گا۔ مزید برآں، ایک کلاس میں فیل ہونا ایک طالب علم کے سندیافتگی کے معیارات کی تکمیل نہ کرنے یا ترقی مشکوک ہوجانے کا سبب بن سکتا ہے۔

William Cullen Bryant High School

“The Relentless Quest for Excellence”

Namita Dwarka, Principal

ریموٹ لرننگ گریڈ دینے کی پالیسی

35% وضع - کلاس روم کا ماحول -	35% وضع - سمجھنے کی جانچ -	30% مجموعی - تشخیصات -
<ul style="list-style-type: none"> • بات چیت کی پوسٹس / تھریڈز؛ پیغام کے بورڈز • ای میل بات چیت • گوگل بینگ اوٹس / گوگل میٹ • ڈسکشنز / کانفرنسنگ • چیک ان (داخل ہونے کا ٹکٹ) / ایگزٹ (خارج ہونے کا ٹکٹ) 	<ul style="list-style-type: none"> • تشریح • رکبیں اور لکھیں / فوری تحریر • ختم ہونے والے کام کے سنگ میل (بینچ مارکس) • خاکے اور تجدیدات <ul style="list-style-type: none"> ○ ایک خاکہ تیار کرنا ○ تحریری کام میں تجدید کرنے کے لیے رائے کو استعمال کرنا ○ ہفتہ وار مفوضہ کام 	<ul style="list-style-type: none"> • ختم ہونے والا کام (مجموعی)

- پیشرفت رپورٹ -

- جیسے ہم ریموٹ لرننگ کو جاری رکھیں، صرف موجودہ مارکنگ پیریئڈ کے لیے Skedula میں داخل کیے گئے مفوضہ کام کے گریڈ کی بنیاد پر پیش رفت کی رپورٹ کو ہر ایک مارکنگ پیریئڈ (دورانیے کے وسط میں) ای میل کے ذریعے بھیجا جائے گا۔ اس لیے تمام اساتذہ کے لیے Skedula کے اعداد و شمار کو درستگی کے ساتھ تازہ رکھنا نہایت اہم ہے۔
- COVID-19 کی وبا کی وجہ سے اچانک تبدیلیوں کی وجہ سے، پیش رفت کی اگلی رپورٹ کو طلباء کو ان کے برائینٹ جی میل اکاؤنٹ پر درج ذیل تواریخ پر ای میل کیا جائے گا۔
 - 24 اپریل 2020 - 4 پیش رفت رپورٹ
 - 29 مئی 2020 - 5 پیش رفت رپورٹ

- مارکنگ پیریئڈ -

- اسی طرح سے، 4 اور 5 مارکنگ پیریئڈ کے اختتام میں تبدیلی ذیل کو کی جائے گی:
 - 4 مارکنگ پیریئڈ کا اختتام - 8 مئی، 2020
 - 5 مارکنگ پیریئڈ کا اختتام - 16 جون، 2020

اسکول کا آخری دن 26 جون 2020 ہی ہے۔